

COVID-19 تازہ معلومات

NSW Health نے 14 اگست 2020 کو سکولوں کے لیے COVID-19 سے متعلق نئی معلومات جاری کیں۔ اس سے ہمارے سکولوں کے کام کا طریقہ بدل گیا ہے۔

- 1- جو بچے فلو جیسی علامات کے ساتھ بیمار ہوں، انہیں گھر میں رہنا چاہیے چاہے علامات ہلکی ہوں۔ سکول میں بیمار ہو جانے والے بچوں کو sick bay میں رکھا جائے گا اور یہ انتظام کیا جائے گا کہ کوئی آ کر انہیں لے جائے۔
 - NSW ہیلتھ نے درخواست کی ہے کہ سکول ایسے سب لوگوں کو اپنے مقامی ڈاکٹر یا کسی COVID-19 Clinics (کلینک) سے اپنا ٹیسٹ کروانے کی ترغیب دیں جو بیمار ہوں یا جنہیں فلو جیسی بالکل ہلکی سی بھی علامات پیش ہوں۔
 - فلو جیسی علامات رکھنے والے طالب علموں اور عملے کے ارکان کو اپنے COVID-19 کے ٹیسٹ کے منفی نتیجے کی کاپی دینا ہو گی اور اس کے بعد ہی انہیں سکول واپس آنے کی اجازت ملے گی۔
 - 2- جہاں ممکن ہو، طالب علم اپنے سکول کے اندر تمام تعلیمی سرگرمیوں کے لیے اپنے گروپ (یعنی کلاس، ایئر گروپ یا سٹیج) میں ہی رہیں گے تاکہ قریبی واسطوں کو محدود رکھا جائے۔
 - 3- لوگوں کو انتہائی ضروری مقصد کے علاوہ سکول میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ سکول میں کسی استاد یا عملے کے رکن سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سکول کو فون کر کے اپائنٹمنٹ لینی چاہیے۔ یہ اپائنٹمنٹ فون پر یا وڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہو گی۔
 - 4- سکولوں کے مابین سرگرمیوں کا مقامی کمیونٹی یا زون کے اندر ہونا ضروری ہے۔ زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے والے سپورٹس کارنیوال یا ایسی دوسری سرگرمیوں کی اس صورت میں اجازت نہیں ہے کہ دو سے زیادہ سکول شریک ہوں۔
 - 5- گروپ کی شکل میں گانے (کوائر) اور/یا دوسری نعروں یا ترانوں جیسی تمام سرگرمیوں، اور اسی طرح گروپ کی صورت میں پھونک سے بجائے جانے والے سازوں کے استعمال کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہائر سکول سرٹیفکیٹ (HSC) کے طالب علموں کے لیے خاص انتظامات مہیا ہیں۔
 - 6- Year 11 اور Year 12 کے جو طالب علم (HSC) مضامین مکمل کر رہے ہیں، وہ اپنے مضامین سے تعلق رکھنے والی ان کلاسوں/سرگرمیوں میں حاضری جاری رکھ سکتے ہیں جو صرف دوسرے کیمپسوں میں دستیاب ہیں۔ Year 11 کے طالب علموں سمیت دوسرے تمام طالب علم جو HSC کے مضامین مکمل نہیں کر رہے ہیں، انہیں باقی Term 3 کے لیے دوسرے کیمپسوں میں حاضری کی اجازت نہیں ہے۔ TAFE اور دوسرے VET پروگرام جاری رہ سکتے ہیں۔
- اگرچہ 2021 کے لیے کنڈرگارٹن کی تعارفی ملاقاتوں کو ملتوی کر دیا گیا ہے، [department's website](#) (ڈیپارٹمنٹ کی ویب سائٹ) سے مفید تجاویز دستیاب ہیں۔ ان تجاویز سے کنڈرگارٹن کے آغاز کے لیے طالب علموں کا شوق اور لگاؤ برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔
- تبدیلیوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اپنے سکول سے اپائنٹمنٹ لیں۔

ٹیلیفون انٹریپرٹ سروس

اگر آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہے تو اپنے سکول کے پرنسپل کو فون کریں۔ اگر آپ کو بات کرنے کے لیے انٹریپرٹ (زبانی مترجم) کی مدد درکار ہے تو براہ مہربانی 131 450 پر ٹیلیفون انٹریپرٹ سروس کو فون کریں اور اپنی زبان کا انٹریپرٹ مانگیں۔ آپ سے اس سروس کا معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔